



سوال

(338) طلاق کے اسباب

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کی نظر میں طلاق کے کیا اسباب ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

طلاق کے اسباب بہت ہیں جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں :

- 1- خاوند اور بیوی کے درمیان عدم موافقت وہ اس طرح کہ کسی ایک کی طرف سے دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، یا پھر دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت نہ کریں۔
- 2- عورت کا بد اخلاق ہونا یا نیکی اور خیر کے کاموں میں شوہر کی اطاعت نہ کرنا۔
- 3- خاوند کا بد اخلاق ہونا، عورت پر ظلم و زیادتی کرنا۔ اس کے ساتھ نا انصافی کرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کر سکتا۔
- 4- بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کر سکتی ہو۔
- 5- دونوں میں سے کسی ایک کا گناہ میں مبتلا ہونا یا دونوں کا ہی گناہ میں ملوث ہونا جس کی وجہ سے ان کے حالات بگڑ جائیں اور پھر طلاق ہو جائے۔ مثلاً خاوند نشے کا عادی ہو یا سگریٹ ہو یا بیوی نشہ کرتی ہو یا سگریٹ نوش ہو وغیرہ۔
- 6- بیوی کے ساس یا سر کے ساتھ معاملات خراب ہوں اور وہ ان کے ساتھ حکمت سے پیش نہ آسکے۔
- 7- بیوی کا خاوند کے لیے پاک صاف اور بن سنور کرنے رہنا اور عمدہ لباس و خوشبو استعمال نہ کرنا، اسی طرح ۹ صحت اور محبت بھری گفتگو نہ کرنا اور ہشاش بشاش چہرے کے ساتھ نہ ملنا وغیرہ۔ (شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ)
حد ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

ص 424

محدث فتویٰ